

(4) ذاتی حفاظت کا سامان

- پیسنے کے عمل اور برماکاری کے عمل کے دوران کارٹریجز سے استعمال ہونے والے فکسنگ آلات کو استعمال کرتے ہوئے چشمے لازماً پہننے ہونے چاہئیں۔



(5) چیزوں کو سنبھالنے/چھونے کا عمل

- سامان/چیزوں کو پکڑتے ہوئے اپنی قابلیت کو مدنظر رکھیں۔ بڑے اور بھاری سامان کو زیادہ لوگوں یا مشینی مدد سے سنبھالنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ وزنی سامان مت اٹھائیں۔



(6) سامان کو سٹور کرنا

- کام کرنے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ آپ موثر اور خوش انداز سے کام کر سکیں۔



4

مزید برآں، کارخانے اور صنعتی تعمیر کے آرڈیننس کے سیکشن چھ بی کے مطابق، ایک ملازم کو اپنے مالک اور دوسرے افراد کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جو حفاظتی قوانین اور ضابطہ عمل کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے خود اسے یا دوسروں کو خطرہ لاحق ہو۔



معلومات

اگر آپ اس کتابچے کے بارے میں معلومات یا پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کے معاملات پر مشورہ حاصل کرنا چاہیں تو براہ کرم لیبر ڈیپارٹمنٹ کی پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کی برانچ سے رابطہ کریں:

ٹیلی فون: 2559 2297 (کام کے گھنٹوں کے بعد خودکار ریکارڈنگ کی خدمت میسر ہے)
فیکس: 2915 1410
ای میل: enquiry@labour.gov.hk

لیبر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے پیش کی جانے والی اور لیبر سے متعلقہ بڑی قانون سازی کیلئے پیش کی جانے والی خدمات بھی ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہیں <http://www.labour.gov.hk>

پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کونسل کی جانب سے پیش کی جانے والی خدمات کی تفصیلات کیلئے، براہ کرم ہمیں کال کیجئے 2739 9000

شکایات

اگر آپ کو کام کی غیر محفوظ جگہ یا کام کے غیر محفوظ ضابطہ کی شکایت ہے، براہ کرم لیبر ڈیپارٹمنٹ کی پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کی شکایتی ہاٹ لائن 2542 2172 پر کال کریں۔ تمام شکایات کو بہت اعتماد کے ساتھ نمٹایا جائے گا۔

5

لیے احتیاطی تدابیر تعمیراتی کام کے



بیشہ ورانہ احتیاط اور صحت کی برانچ
لیبر ڈیپارٹمنٹ

بیشہ ورانہ احتیاط اور صحت کونسل

(2) آگ کی روک تھام

• جب پینٹ، چپکنے والی چیزیں، رقیق کار مادے، واٹر پروف اور لیک پروف سامان کو استعمال کر رہے ہو تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ کام کرنے کی جگہ اچھی ہوادار ہے اور اس طرح کے سامان کو آگ پکڑنے کے ماخذ سے دور رکھیں۔




• آگ پکڑنے کے ماخذ سے بچنے کیلئے کبھی بھی کام کی جگہ پر سگریٹ نوشی مت کریں۔



(3) برقی آلات

• ہاتھ والے برقی آلات اور ویلڈنگ مشینوں کو تصریحات کے مطابق ہونا چاہیے اور مناسب پلگ کے ساتھ بجلی کی ترسیل کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔



برائے مہربانی عام تعمیراتی کام میں پیش آنے والے مندرجہ ذیل-حفاظتی مسائل پر توجہ فرمائیں:

(1) اونچائی پر کام

• اگر عمارت کی بیرونی دیواروں کا کام شامل ہو تو دوگنا قطاروں کی ہاڑ باندھی جائے اور کام کرنے والی جگہ کی سطح بالکل سیدھی ہونی چاہیے



• اونچائی پر کام کرنے کے دوران سیفتی ہارنس کا استعمال اور اسکو محفوظ انکورج پوائنٹس پر لگانا یقینی بنایا جائے



بڑے تعمیراتی منصوبوں میں، ٹھیکیدار کارکنوں کی حفاظت اور صحت کے مسائل کو منظم کرنے کے لئے عام طور پر مزید..حفاظتی نظام کو اپناتے ہیں۔

چھوٹے پیمانے کے تعمیراتی کام میں ذمہ دار افراد کو اپنے ملازمین کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنانے کے لئے کارروائی کرنا پڑتی ہے۔ وہ لیبر ڈیپارٹمنٹ یا پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کونسل کی خدمات استعمال کرسکتے ہیں۔

کام کی نوعیت کے باوجود، مالکان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ جہاں تک عملی طور پر ہو سکے کام پر لگے اپنے ملازمین کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنائیں۔

فیکٹریاں اور صنعتی انوسٹنگ آرگنائزیشن کے سیکشن 6A کے مطابق، تعمیراتی کام کے لئے ایک ذمہ دار شخص:-

(A) اگر وہ بتائی گئی عمومی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ جرم کرے گا اور \$500,000 جرمانہ دینے کا ذمہ دار ہوگا

(B) اگر وہ جان بوجھ کر یا بغیر کسی مناسب وجہ کے بتائی گئی عمومی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ جرم کرے گا اور وہ \$500,000 جرمانہ دینے کے ساتھ ساتھ 6 مہینے کی قید کا ذمہ دار ہوگا

تصحیح بابت حفاظتی اشارے برائے تزیین و آرائش
(سال 2017 ایڈیشن)

(18 ستمبر 2023)

آئٹم	صفحہ	موجودہ ورژن	ترمیم
1	1	فیکٹریاں اور صنعتی انوسٹنگ آرگنائزیشن کے سیکشن 6A کے مطابق، تعمیراتی کام کے لیے ایک ذمہ دار شخص:-	فیکٹریز اینڈ انڈسٹریل انڈرٹیکنگ آرڈیننس کے سیکشن 6A کے مطابق، تزیین و آرائش کے کام کے لئے ایک ذمہ دار شخص:-
		(A) اگر وہ بتائی گئی عمومی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ جرم کرے گا اور \$500,000 جرمانہ دینے کا ذمہ دار ہوگا	(A) جرم کا مرتکب گا اور ذمہ دار ہوگا— (a) معمولی نوعیت کے جرم پر سزا پانے کی صورت میں—\$3 ملین جرمانہ دینے کا؛ یا (b) سنگین نوعیت کے جرم پر سزا پانے کی صورت میں—\$10 ملین جرمانہ دینے کا۔ اگر وہ بتائی گئی عمومی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
		(B) اگر وہ جان بوجھ کر یا بغیر کسی مناسب وجہ کے بتائی گئی عمومی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ جرم کرے گا اور وہ \$500,000 جرمانہ دینے کے ساتھ ساتھ 6 مہینے کی قید کا ذمہ دار ہوگا	(B) جرم کا مرتکب ہوگا اور ذمہ دار ہوگا— (a) معمولی نوعیت کے جرم پر سزا پانے کی صورت میں—\$3 ملین جرمانہ دینے کے ساتھ ساتھ 6 مہینے کی قید کا؛ یا (b) سنگین نوعیت کے جرم پر سزا پانے کی صورت میں—\$10 ملین جرمانہ دینے کے ساتھ ساتھ 2 سال قید کا۔ اگر وہ جان بوجھ کر یا بغیر کسی مناسب وجہ کے بتائی گئی عمومی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔